| Ch #  | # 5 1st half Chemistry Clas  |                       | ass 9 <sup>th</sup> | Time:401                        | Minutes                               | Marks: 20      |  |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| Name:   |  | F                     | Roll. No            | Section:                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |  |
| Q. no 1: Choose the best answer:  |  |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| 1. How many times liquid are denser than gases                                      |  |                       | gases?              | مائع گیس سے کتنے گنا بھاری ہیں? |                                       |                |  |
| a) 100  | times  | b) 1000 times         | c) 10,00            | 00 times                        | d)                                    | 100000 times   |  |
| 2. One atm is equal to $2 - \frac{1}{2}$  |  |                       |                     |                                 |                                       | ایک اے-ٹی-ایم  |  |
| a) 101  | 325  | b) 10325              |                     | c) 106075                       | d)                                    | 10523          |  |
| نسی گیس تیزی سے دفیو ژ کرتی ہے؟ ? ? Which one of the following gas diffuses faster? |  |                       |                     |                                 |                                       | کونسی گیس تیزی |  |
| a) He   |  | b) H <sub>2</sub>     | 1                   | c) F                            | d)                                    | Cl             |  |
| 4. S.I unit of pressure.  |  |                       |                     |                                 | ہ ہے پر یشر کا                        | ايس– آئي يونيٹ |  |
| a) $\mathrm{Nm}^{-2}$   |  | b) $N^{-2}m$          |                     |                                 |                                       | d) Nm          |  |
| 5. Absolute temperature s   |  | ure scale introduces. |                     |                                 | × •                                   | ليبسوليو       |  |
| a) Charles چإركس  |  | بوائل Boyle (b        | c) Henr             | ، پينر يy                       | ن Kelvin (ا                           | كبلوا          |  |
| _ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ Q. no 2: Give short answers:                          |  |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| i.  | ڈ فیو ژن کیاہے؟ مثال دیں . What is diffusion? Give example.                                  |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| ii.   | د فيوژن کياہے؟ مثال ديں .<br>گيسز کو کيوں دبايا جا سکتا ہے؟<br>( Why are gases compressible? |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| iii.  | ٹھو س مائع اور گیسز سے بھاری کیوں ہیں؟ Why solids are denser than liquids and gases.         |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| iv.   | گیسنر کی ڈینسٹی ٹھنڈا کرنے ہر کیوں بڑ ھتی ہے؟  |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| v.  | ليبسوليوٹ زيرو کيا ہے What is absolute zero?   |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
|   | Q. no 3: What is Boyle's law? Give experimental verification.                                |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
|   | بوائل کا قانون کیاہے ؟ اسکی تجرباتی تصدیق ککھیں  |                       |                     |                                 |                                       |                |  |
| www.akbareducation.com  |  |                       |                     |                                 |                                       |                |  |